

غلام احمد فرقت کا کوروی

(1910 – 1973)

فرقت کا کوروی کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ بچپن میں ہی باپ کے سایے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ابتدائی عمر معاشی تنگی میں بسر ہوئی مگر تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ لکھنؤ اور علی گڑھ کی دانش گاہوں سے ایم اے، بی ایڈ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ تاریخ کے استاد کے طور پر اینگلو عربک اسکول، دہلی میں تقریباً تیس سال تک درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا۔ وہ نثر و نظم دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ ان کا طرزِ تحریر دل چسپ اور عام فہم ہے۔ ان کا شمار اردو کے مقبول ادیبوں میں ہوتا ہے۔

”کفِ گل فروشاں“، ”قدچے“، ”ناروا“ ان کے نثری اور شعری مجموعے ہیں۔

کہاوتوں کی کہانی



4922CH14

ہم روزمرہ اپنی آپس کی بول چال میں ایسی کہاوتیں اور محاورے بولتے ہیں جن کا مطلب تو سمجھ لیتے ہیں مگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کہاوتیں اور محاورے کس طرح ہماری زبان میں آئے اور انہیں ہم کب سے بولتے چلے آ رہے ہیں۔ تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان محاوروں اور کہاوتوں میں بعض ایسے ہیں جن کے پیچھے بڑے دل چسپ لطیفے اور قصے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ”وہی مرغے کی ایک ٹانگ“ بولتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی بس اپنی ہی بات پر اڑا رہے، چاہے حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس مقولے کے پیچھے جو قصہ پھنپا ہے، وہ بڑا دل چسپ ہے۔



ایک انگریز کے یہاں ایک خانسا ماں نے ایک مسلم مرغ پکا کر اس کی ایک ٹانگ خود کھالی اور ایک اپنے صاحب کے سامنے کھانے کی میز پر رکھ دی۔ صاحب نے ایک ٹانگ دیکھ کر کہا:

”ول خانسا ماں! اس مرغ کی ایک ٹانگ کہاں ہے۔؟“

”حضور! اس مرغ کی ایک ہی ٹانگ تھی۔“ خانسا ماں نے جواب دیا۔“

اس پر صاحب کو ہنسی تو آئی مگر وہ خاموش ہو کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ برآمدے کے سامنے کچھ مرغ اور مرغیاں دانا چنگ رہی تھیں۔ ان میں ایک مرغ اپنا ایک پاؤں سمیٹے دوسرے پاؤں سے کھڑا تھا۔ خانسا ماں کو اچھا موقع ملا۔ اس نے کہا۔ ”دیکھیے صاحب یہ مرغ بھی ایک ہی ٹانگ کا ہے۔“

یہ سن کر صاحب، مرغ کے پاس گئے اور انھوں نے ”ہش ہش“ کیا۔ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خانسا ماں نے یہ دیکھ کر کہا۔ ”حضور! کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہوگئی۔ اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ”ہش ہش“ کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔“

اُس وقت سے یہ فقرہ ضرب المثل بن گیا۔

اسی طرح ایک دوسری مثل ہے ”اونٹ کس گل بیٹھتا ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے اور کیا انجام ہوتا ہے۔ اس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک کھار اور ایک سبزی فروش نے مل کر ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اس کے ایک ایک طرف اپنا سامان لاد دیا۔ راستے میں سبزی بیچنے والے کی ترکاری کو اونٹ گردن موڑ کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر کھار مسکراتا رہا۔ جب اونٹ منزل پر پہنچا تو جدھر کھار کے برتنوں کا بوجھ تھا، اونٹ



اسی کروٹ بیٹھا جس سے بہت سے برتن ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اُس وقت سبزی بیچنے والے نے کھار سے ہنس کر کہا۔

”کیوں گھبراتے ہو، دیکھو اب آئندہ اونٹ کس گل بیٹھتا ہے؟“

ہم اکثر کہتے ہیں ”حضور آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔“ یہ فقرہ

اس وقت بولتے ہیں جب بہت زیادہ انکساری ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ اب اس مقولے سے متعلق جو لطیفہ ہے اسے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ ایک مسخرے کو دل لگی سو جھی۔ جھٹ پٹ اس نے چند دوستوں کی دعوت کر دی۔ جب وہ لوگ آکر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کے حوالے کیے۔ اسے پہلے ہی سے مقرر کر رکھا تھا۔ وہ شخص سارے جوتے کباڑی بازار میں جا کر بیچ آیا۔ یہ رقم دعوت کے کھانے کی تیاری میں کام آئی۔ جب دسترخوان پر کھانا چٹنا گیا تو سب مہمانوں نے مسخرے سے کہا۔ ”آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟“ مسخرے نے نہایت عاجزی سے کہا۔ ”یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔“

کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا۔ ”حضور! وہ تو میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔“

ایک اور کہادت ہے ”اونٹ کے گلے میں پٹی“۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ جب باوجود انتہائی تلاش کے اونٹ نہ ملا تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اونٹ مل جائے گا تو اسے نکلے کا بیچ دے گا۔ اتفاق سے وہ اونٹ مل گیا۔ اس وقت یہ شخص گھبرا گیا کہ اب تو بہر حال اونٹ کو ایک نکلے میں بیچنا پڑے گا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے اس کو یہ صلاح دی۔ ”تم اس کے گلے میں ایک پٹی باندھ دو اور اس طرح آواز لگاؤ کہ ایک نکلے کا اونٹ ہے اور سو روپے کی پٹی، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ یکنیں گے۔“ اس شخص نے ایسا ہی کیا جس کے بعد اس کو مصیبت سے نجات مل گئی۔

(غلام احمد فرقت)



مشق

● معنی یاد کیجیے:

بول چال کی زبان	:	روزمرہ
چند	:	بعض
کھانا کھلانے والا، ملازم، باورچی	:	خانساماں
پورا پکا ہوا مرغ	:	مرغ مسلم
ظاہر ہونا، سامنے آنا	:	ظہور
مٹی کے برتن بنانے والا	:	کھھار
سبزی بیچنے والا	:	سبزی فروش
عبارت کا ٹکڑا، جملہ	:	فقہہ
کہاوت	:	ضرب المثل
غور نہ کرنا، عاجزی	:	انکساری
قول، بات، کہاوت	:	مقولہ
ہنسانے والا	:	مسخرہ
گڑ گڑا کر، نرم لہجے میں	:	عاجزی
خیرات، وہ چیز جو خدا کے نام پر دی جائے	:	صدقہ
اچانک، ایکایکی	:	اتفاق سے
مشورہ، رائے	:	صلاح
چھٹکارا	:	نجات

غور کیجیے:

- ☆ کہاوتیں زبان کا سرمایہ ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال گفتگو کو دل چسپ بنا دیتا ہے۔
- ☆ کہاوتیں اپنے آپ بنتی ہیں اور کہاوت کا پورا فقرہ جوں کا توں استعمال ہوتا ہے۔

سوچیے اور بتائیے:

- 1- مقولہ 'وہی مرغ کی ایک ٹانگ' کا کیا مطلب ہے؟
- 2- مرغ کی دوسری ٹانگ نکلنے پر خانسا ماں نے صاحب سے کیا کہا؟
- 3- اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کا قصہ کیا ہے؟
- 4- حضور 'آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔' اس مقولے سے متعلق کیا لطیفہ مشہور ہے؟
- 5- 'اونٹ کے گلے میں پٹی' اس مقولے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟

نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے:

حیرت حقیقت چوکننا سبزی فروش دعوت

خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے:

یہ سن کر صاحب..... کے پاس گئے اور انہوں نے..... کیا۔ مرغ نے دوسری..... بھی نکال دی۔..... نے یہ دیکھ کر..... حضور! کھانا کھاتے وقت..... سے بڑی..... ہو گئی۔ اگر آپ اس کپے ہوئے مرغ کے..... ہش ہش کرتے تو وہ بھی اپنی..... ٹانگ نکال لیتا۔

● نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے:

اصحاب	مواقع	امثال	مشکلات	مجاورات
اوقات	اتفاقات	مطالب	لطائف	مکالیف

● عملی کام:

☆ اس سبق میں جو کہاوتیں استعمال کی گئی ہیں ان کے علاوہ پانچ کہاوتیں ڈھونڈ کر لکھیے۔

© NCERT
not to be republished